

232136- ماہ شوال میں رخصتی کے باعث حیض کا وقت رمضان میں لانا چاہتی ہے۔

سوال

سوال: میری رخصتی کا وقت حیض کے ایام میں آ رہا ہے، میں نے اس بارے میں اپنی معالجہ سے رجوع کیا کہ مجھے حیض وقت مقررہ سے پہلے آجائے جو کہ ماہ رمضان میں بنتا ہے، اس بنا پر ماہ رمضان میں مجھے معمول سے زیادہ روزے ترک کرنے پڑیں گے، تو کیا اس بارے میں کوئی ممانعت تو نہیں؟

پسندیدہ جواب

خاتون حیض کا وقت معمول کے وقت سے پہلے کرنے کیلئے اقدامات کر سکتی ہے، بشرطیکہ اس کا مقصد رمضان میں روزے نہ رکھنے کیلئے جلد بازی نہ ہو اور عورت کی صحت پر اس کے منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔

مزید کیلئے آپ سوال نمبر: (156110)، (212472) اور (127259) کے جوابات ملاحظہ کریں۔

میں نے یہ سوال اپنے استاد محترم عبدالرحمن البراک حفظہ اللہ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا:

”افضل یہی ہے کہ حیض کو معمول کے مطابق ہی آنے دے، اور اس بارے میں اپنے خاوند کو بتلا دے، خاوند جماع کے علاوہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے جائز قرار دیا ہے۔“

اور اگر حیض کے ایام کو معمول سے مقدم کرنا انتہائی ضروری ہو تو پھر اس کیلئے مخصوص ادویات استعمال کر سکتی ہے، چاہے یہ حیض رمضان میں ہی کیوں نہ آئے، یہ خاتون بعد میں ان روزوں کی تھنڈے ”انتہی“

واللہ اعلم.